

JUT KUIMP TEPA IK KUE

Ya Buk Ei Nga Put Ei:

Mon ei ropa, mondpa pili wamp mbu, ronduł munduk molk, ik mbo wu kol ropa mbu nga rup etuk mulai!

Ya Buk Ei, Nam Ndi Rurum:

Wu Jisas kən Jeims rał nga ṫngan Jut ndi, mon ei rurum.

Mon Ropa Nam Ngurum:

Mon ei ropa, Jura wamp na mondpa pili wamp rulaip ekit orunga mbu kən ngurum.

Ui Nant Ila Rurum:

Ei Kraist metəng ei kən, mbuldung orunga pana 65 (AD) ila rurum.

Ik Ronduł: Jut 1:3

Na nga angmən mbu, Got ndi, tən etpa titim uł ei nga, enim mon ti rop, nguimp nəmp pit. Wote ei kelip, enim Got ndi, mondpa pili uł ngurum ei, ronduł puk, rup etuk, uł kit mbu, rok mana nduk iteing nəmp, mon ei, rop ngunt.

IK PENG KUE **Rump**

1:1-1:2 - Jut ndi, mon ei mel rurum
 1:3-1:16 - Ik mbo wu kep nui mbu
 1:17-1:25 - Uł iting mbu mel man ik

Jut Ndi, Mon Ei Mel Rurum

¹ Enim Got Tipam ndi, numan ngumba wiropa tilinga, Jisas Kraist ndi, rüp etum wamp kʉt, na Jeims ḥngʉn Jut, Jisas Kraist nga kongun kindmant wu ei ndi, mon ei rop, enim ngunt. ² Got nga wamp kont kul uł na, numan wang ndui uł na, wote elim nga wamp numan ngui uł na mbʉ, enim kʉn piyangga!

Ik Mbo Wu Kep Nui Mbʉ

³ Na nga mʉn mul wamp mbʉ, Got ndi, tʉn etpa titim uł ei nga, enim mon ti, rop nguimp nʉmp pit. Wote ei kelip, enim Got ndi, mondpa pili uł ngurum ei, ronduł puk rüp etuk, uł kit mbʉ, rok mana nduk iteing nʉmp, mon ei, rop ngunt. ⁴ Wamp mat, unt Buk Wingti ei ndi, kit mułing nitim nimbʉ, akup tʉn kʉn ruk ting ila ok molt, Got nga wamp poł tʉtʉm rʉnang ik ei, tuk pei munduk, wote Jisas Kraist tʉn nga wu Nuim ei, tuk mbuł ngunmin. ⁵ Enim pʉtmʉn ik ni, aldfa enim kundap namp. Ei Oła Nuim ei ndi, Isrel wamp mbʉ, Isip kona ila etpa tʉpa mepa ekit urum. Wote akil tepe, elim mondak pili napʉtʉng wamp mbʉ ropa kundrum. ⁶ Ik ti unt anggelo mat, ronduł tek morung mbʉ, en enim nga kongun ila meka rok, kongun etuk kai mundi namʉndrʉng ila, en enim nga Got ndi, ngurum kona ei wak rorung. Anggelo mbʉ Got ndi, ui ou ei kʉn kʉmp tʉmba. Ei nga akup, Got ndi, tʉpa kan ngurum ei mel, rumbuł ila pek mormin. ⁷ Unt Sorom kʉn Gomora rał kʉn, wote kona peng mat, nondpa titim mbila petʉng wamp mbʉ ndi, anggelo mbʉ etʉng ei mel, wapra rui uł na, minʉpi na, minal mat etʉng ila, ndip mana

ndupa, wamp minal ropa keram. Uł itim ket, uł nga kona ila, ndip ei ndi nomba ei mel, to tendpa itim. ⁸ Uł tenda ei mel ku etk, wamp mbu ur kump mat etmin nek, en enim nga kung orunga, etk ge nduk, wote Got nga ronduł ei, tk pei mondk, muł ila anggelo mbu, ik mura nguk etmin. ⁹ Wote, anggelo Maikel kuimbal morum ei ndi, uł mbu mel iti natatum. Unt anggelo Maikel kn Seitan rał, Moses nga on ei, tek piral etanggil. Ei kn, Maikel ndi, Seitan tepa pei mundpa ik mura ngui nganggeram. Wote elim ndi, nimba mel, “Got elim ndi, nim kn ik ti nangga!” nitim. ¹⁰ Wote, wamp kit mbu, en enim pilik kun iti natatmen uł mbu nga, ik mbuldung orunga natatmen. I etmin uł ei ndi, en enim nga numan mbo ei, mel rakra mel, kapla pelinga, en enim etpa kit mondrum. ¹¹ Enim pilik kun itai! Wamp kit ket ndi, unt wu Kein uł kit itim uł ei mel etk, wu Beilam ku moni timp nimba, etpa kit mundrum ei mel etk, wote, unt wu Kora ik tepa roi ndupa, elim kit murum ei mel, wamp mbu i ku etk, en enim kit mułing. ¹² Wamp kit ket ndi, enim min mondk, reng tk tenda etk, koik nok mormin ila, pipil ketli nalk, reng mbu ok, roldang nok etmin. Wu kit mbu, kona kepku ndi kopa mepa pułnga, kona rui nareram ni mel, wote nde ti mong rui narernga, runggulk mundurmen ni mel. ¹³ Wamp mbu nga numan ei num kuta ndi, ropa omba ekit pi naperam ei mel kapla. Wote wamp mbu mipil na ti, muł ila rułang nomba mba, wote kumbram ni mel kapla. ¹⁴⁻¹⁵ Unt kor nga, Andam nga wamp kalk tk mek yant yant ołina, 7 itim ni kn, anda kouwu

Inok ei ndi mołpa, ik pai nomba, nimba mel, “Ya kʉnʉiya! Oła Nuim ei ndi, anggelo wingti minal mepa om̄ba. Wamp mbʉ nga puł mbʉ, akpa nimba, Got tʉk mbuł nguk, wote Got kʉn el rui wamp ralk, ik minʉpi nʉk etmin wamp kit mbʉ nga, puł mbʉ akpa nimba, kʉmp tʉpa etpa, elik rondʉmba,” nitim. ¹⁶ Wu kit mbʉ ndi, ik kek rʉk kak rʉk nʉk, wamp mat ik ndo ngok, en enim nga orunga ou nduk pilik, wamp mat etʉk rormin.

Uł Iting Mbʉ Mel Man Ik

¹⁷ Wote, na nga wamp angmʉn mbʉ pilʉiya! Enim unt nombułta rʉng wu kʉł ndi, tʉn nga Nuim Jisas Kraist nga ik mat kundʉk nʉtʉng nimbʉ, pilik mint mułai! ¹⁸ Enim unt nʉk mel, “Ui pora nimba ei kʉn, wamp mat ndi, Got nga uł eng mbʉ kandʉk, oi endʉk, en enim nga orunga uł kit iting mbʉ nga ou nduk piling,” nʉtʉng. ¹⁹ Wamp iti mbʉ, Mułngɑ Wingti tek mułi nambulk, wamp etʉk geka nduk, en enim nga kʉng orunga ou nduk pilik etmin. ²⁰ Wote, enim wamp angmʉn mbʉ, en enim nga mondpa pili wingti ila, rondułpuk molt, Mułngɑ Wingti ei kʉn atinga rʉi! ²¹ Enim Got nga wamp numan ngui uł ila mułangina, tʉn nga Nuim Jisas Kraist nga wamp kont kʉł uł ei ndi, enim uł nga kʉnt nga kont mul uł ei tʉpa ngumba, ei nga nokundʉk mułai! ²²⁻²³ Wamp kont kul uł ei, mondpa pili ronduł pi napʉm wamp mbʉ kʉn etʉk, wote wamp mat, ndip nuing mbʉ etʉk tʉi! Wote, uł kit eng wamp mbʉ, kont kulk uł kit eng mbʉ enim ołʉmp ting ei nga, ok tʉk mułai! ²⁴ Enim kawa ndupa romba ei nga, peng manga rakpa

Jut 25

v

Jut 25

mułangga, ambulk palk uł eng nui mbu molk ting.
25 Tən nga Etpa Ti Wu Got ałum ei, tən nga Nuim
Jisas Kraist ei ndi, etpa mon mondpa, kaip nindpa
etangga! Wamp mumuk rui omba uł ombil əmbil
mbu, elim kən uł nga kənt nga kont mul uł ei,
pimba ei nga petəm. Ei kupa.

**Got Nga Nambuha Ik Kai
The New Testament in the Melpa Language of Papua
New Guinea
Nupela Testamen long tokples Melpa long Niugini**

Copyright © 1995 The Bible Society of Papua New Guinea

Language: Melpa

Translation by: Wycliffe Bible Translators

Earlier edition was © 1965 British and Foreign Bible Society

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2012-10-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files
dated 9 Oct 2020

7aee00d3-bf61-5aa2-84a1-8318bf7d51e2